



سوال

(173) زکوٰۃ ایک فقیر کو دینا افضل ہے یا زیادہ فقیروں کو؟

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

جب انسان اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرے اور وہ بہت قلیل مثلاً صرف دو سو ریاں ہو تو کیا وہ صرف ایک ضرورت مند گھر کو دینی افضل ہے یا مختلف گھروں میں تقسیم کر دی جائے تو افضل ہے؟ جزاکم اللہ خیراً۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

جب زکوٰۃ کی مقدار کم ہو تو ایک ضرورت مند کو دینی اولیٰ اور افضل ہے کیونکہ اگر زکوٰۃ کم ہوگی اور اسے زیادہ گھروں میں تقسیم کر دیا جائے گا تو اس کی افادیت کم ہو جائے گی۔